



Long-Term Care Home Update

Community Newsletter



جنوری 2022

جنوری میں تعمیراتی سرگرمیاں

ایک بار مکمل ہونے کے بعد، پارکنگ گیراج طویل مدتی نگہداشت کے گھر اور ہسپتال کے مریضوں کے ساتھ ساتھ رہائشیوں، مہمانوں، ٹیم کے ارکان اور خاندان کے افراد کے لیے 500 پارکنگ کی جگہ فراہم کرے گا۔

گھر کے اندر، گھر کی چھتوں پر ریلنگ لگائی گئی ہیں اور آخری مرمت تیزی سے جاری ہے۔ جیسے جیسے عمارت کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب ہے، لیکریج ہیلتھ اور پی سی ایل کنسٹرکشن ٹیمیں گھر کے تمام شعبوں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں — روشنی کے انتظام سے لے کر دروازے کے قبضوں اور فرش تک — کسی بھی کمی کی جانچ اور کمی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عمارت صاف، مکمل، اور لیکریج ہیلتھ ٹیم کی تحویل میں دیئے جانے کے لیے تیار ہے۔

اس آخری تعمیراتی مرحلے کے دوران، سائٹ کی صفائی کی جائے گی اور جس سے آوازوں کا کچھ شور ہو سکتا ہے۔ ہم تعمیراتی سائٹ کے قریبی علاقے میں رہنے والے ہر فرد کے صبر اور سمجھ بوجھ کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔

ہمارے قارئین اور ڈرہم کے پورے علاقے کو 2022 مبارک ہو! یہ سال ایجیکس پیکرنگ ہسپتال (Ajax Pickering Hospital) کے ساتھ زیر تعمیر نئے طویل مدتی نگہداشت کے گھر کے لیے دلچسپ سنگ میل لانا جاری رکھے گا۔ ہم ان اہم واقعات کو اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے منتظر ہیں جو پچھلے مہینے کی پیش رفت سے شروع ہو رہے ہیں۔

گھر کے باہر، تعمیراتی جگہ کے چاروں طرف لگی باڑ کو ہٹا دیا گیا۔ کلیمنٹس روڈ پر لین کی بندش کو بھی ہٹا دیا گیا، تاہم، باروڈ ایونیو پر لین کی جزوی بندش برقرار رہے گی کیونکہ نئے پارکنگ گیراج پر تعمیر جاری ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں، بیرونی سرگرمیاں بنیادی طور پر پارکنگ گیراج پر مرکوز ہوں گی۔ ڈھانچے پر کام کرنے کے لیے درکار کریں اس ماہ کھڑی کی گئی تھی اور ہم مزید ٹرکوں کی توقع کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ پر تیار کیے گئے تعمیراتی اجزاء کی سائٹ پر اور باہر فراہمی ہو گی۔



ڈھکے ہوئے پیدل راستے اور پارکنگ کے مقامات کے ساتھ نئے گھر کا بیرونی دروازہ (3 جنوری 2022)

برفانی طوفان کے دوران ہم قدم

ایجیکس نے 17 جنوری کو ریکارڈ توڑ موسم سرما کے طوفان کے دوران 50 سینٹی میٹر برف گرتی دیکھی۔ اس سے نمٹنے کے لیے، طویل مدتی نگہداشت کی تعمیراتی سائٹ کے 20 سے زیادہ کارکنوں نے ایجیکس پکرننگ ہسپتال (Ajax Pickering Hospital) کے پارکنگ کے حصوں سے بیلچہ کے ساتھ برف صاف کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنا وقت دیا۔ ان کی ناقابل یقین کوششوں کی بدولت، ہسپتال کا عملہ ضروری فرنٹ لائن نگہداشت کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے اور مریض محفوظ طریقے سے ہسپتال تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔



پی سی ایل ٹیم کا ایک رکن ڈاکٹروں کی پارکنگ کی جگہ سے برف صاف کر رہا ہے۔

تعمیراتی عبارات کی کلیدی لغت



حقیقی کارکردگی ایک تعمیراتی سنگ میل ہے جو بڑی تعمیرات کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حقیقی کارکردگی کے سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ، یا پروجیکٹ کا ایک حصہ، اس کے مطلوبہ استعمال کے لیے موزوں ہے اور اس کے بعد مالک جائیداد اسے حاصل اور استعمال کر سکتا ہے۔


نامکمل بن کے جائزے حقیقی کارکردگی سے پہلے لیے جاتے ہیں۔ کسی بھی زیبائشی یا معیار کے مسائل کو تلاش کرنے اور حل کرنے کے لیے ایک جامع جائزہ لیا جاتا ہے۔ نقائص میں پینٹ پر خروچیں، فرش کی تکمیل، چھت کی ٹائلیں، لائٹوں کا کام، باہر نکلنے کی جگہ وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔

حقیقی کارکردگی کے منتظر

تعمیر شروع ہونے کے صرف 12 ماہ بعد، لیکریج ہیلتھ (Lakeridge Health) میں طویل مدتی نگہداشت کا گھر حقیقی کارکردگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک بڑی کامیابی، حقیقی کارکردگی تمام بڑی تعمیرات کی تکمیل کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ کہ گھر لیکریج ہیلتھ کے حوالے کیے جانے کے لیے تیار ہے۔

اس کے بعد، لیکریج ہیلتھ ٹیم آنے والے مہینوں میں اس بات کو یقینی بنانے میں گزارے گی کہ جدید ترین گھر مریضوں کے منتقل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس میں شامل ہے گھر کو مستقبل کے 320 رہائشیوں کے لیے آرام دہ جگہ بنانے کے لیے انٹرنیٹ نیٹ ورکس کی تنصیب، آلات، فن پارے، اور دیگر حتمی مرمتیں۔ اگرچہ حقیقی کارکردگی طویل مدتی نگہداشت کے گھر کی بڑی تعمیرات کی تکمیل کو نشان زد کرے گی، بیلی پیڈ اور پارکنگ گیارہ پر علیحدہ تعمیراتی منصوبے جاری رہیں گے۔

عمارت کی منصوبہ بندی اور تعمیر میں شامل ہر فرد کے لیے اس ہدف تک وقت پر پہنچنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جشن منانے کے لیے، لیکریج ہیلتھ اپنے شراکت داروں، پی سی ایل کنسٹرکشن، انفراسٹرکچر انٹیریو، پارکن اور جی آرکیٹیکٹس، اور صوبائی حکومت کے ساتھ آنے والے ہفتوں میں اس سنگ میل کو منائے گی۔ اس سنگ میل کو ممکن بنانے والی قابل ذکر پیشرفت اور شراکت داریوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے نیچے دی گئی ویڈیو دیکھیں!



جڑے رہیں

ہم اس کمیونٹی نیوز لیٹر اور lh.ca پر اپنی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو اپنی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔

کسی بھی وقت، اگر آپ کے سوالات ہیں یا مزید معلومات چاہتی/چاہتے ہیں، تو براہ کرم [905-576-8711](tel:905-576-8711) یا AjaxLTC@lh.ca پر ای ایکسٹینشن 34167 پر کال کریں۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔